

Handwritten text, likely a header or address, mentioning "Kantor" and "Mencari".

Handwritten text, possibly a name or title, including "Solaiman" and "Kantor".

Handwritten text, possibly a name or title, including "Kadaria" and "Kadaria".

Handwritten text, possibly a name or title, including "Kadaria".

Handwritten signature or name, possibly "Kadaria".

Handwritten text, possibly a date or number, "16.85."

نومر ۱: كتاب بهائى هادى نور حال كلاكون ذكر نفسده بر عما دار النفسى = هتريش  
اي كتاب ايدان نفسى مع ذكر لاكونى قد ما نفسى ايد اوله يورونم جزير

1. Kitab bahasa malajue prihal kalakouwan Dikir itakisbandyah bernama Daroennoepus mangartinya ini kitab Dderan napras jangdi perlakoeken pada masa ini oleh goeroe p Djianjaur  
2 = جويا بهائى ملا يور مع دجين در سخا نوراً بر عما تنورج الباريش = هتريش  
اي كتاب هيو كما هاني اي رساله او اعطيه من قده = اريش  
هان كند الله = دكراچ اوله شرح خط بهائى = بر عما احمد بن عبد العنان دتعاي طر بنده  
قدريه بايغ منراحن كلاكون ذكر قد ايد

2 Djuga bahasa malajue jangdi tjap di Singapura bernamu Poetochol aripin. mangartinya ini kitab pamboeka hati aken segala orang jang mairipat artinja jang hendak terang hati kapada Allah di karang oleh Seeh Ketib Sambas bernama ethimud bin ethodulgapur dinamai Tarekat Kadarijah jaitoe menerangkan kalakouwan yu Dikir Kadarijah

3 = بهائى عزاب بر نما رساله = اريش فا ينهون  
بن عبد الله سقيد بن سمن سخا نوراً = متر على حال احوال اور اعطيه هندا و ملك  
مقيد طريكة = اريش بنه ذكر = يلوو بو كيه جلاو يلوو سندن امريش ببول  
اي متعاي ايله كتاب بهائى بر نما رساله

3 Bahasa Arab bernama Risalat artinya parentahan Seeh Salim bin ethoellak Said bin Samir Singapura menerangkan hal ihwal orang jang hendak marfok mengambil Tarekat, artinja berdikir belom boleh djikalo belom sempurna. mangarti betoel aken mengaji milak kitab jang bernama Risalat

4 = كتاب النفسية الاثنية للمبتلى بالظلمة = اريش اي كتاب نصيحة نور ايدو  
كند اور اعطيه هندا نور ماسوق هانوه من اريش اور اعطيه هندا اي ما يحميه كند الله  
يلوو بو كيه جلاو يلوو كندر هاني ايد ما حى ايله كتاب بهائى دكراچ اوله كند  
عثمان بن عبد الله بن عاف بن يحيى الحسبي بن الحسين بن ابي بكر بن ابي

4 Artinja ini kitab nasehat jang elok kapada orang jang hendak marfok Tarekat, artinja orang jang hendak menjembah kapada Allah belom boleh djikalo belom tetap hati aken mengaji milak kitab, jang di karang oleh Said Osman bin ethoellak bin Akil bin yahya Haerfa ini jang tinggul di negeri Batawi

5 = كراخي سيد عثمان جويا اي ميلاكي سيد ادر مرارة نفسديه ائو قد ايدو  
اؤو لا يكرم طر بنده

5 Karangan Said Osman gaeza<sup>aken</sup> menjataken segala adab Tarekat itakisbandyah atawa Kadarijah atawa laen Tarekat

X01

محمود محمد



March Burgeorge

S. S. T. T. Reg

28 PM

Spiddah

J. F. Holle

X02



Waarom Mr. Smeek, verlangend die  
 ik wie we een berischa van u, luiden  
 du: ik kom! - Vooral met het oog op  
 het toerisme, die abel's Paragol,  
 die naar mijn verwachting van  
 narecht de hand haddet, in de  
 spreek in Bantam en die o.a.  
 op Sumatra langzaamheid  
 de taal der brahminische praeij  
 precies gaen. Welke, de bekende  
 mogelijkheid op het schiedet, en  
 de adas, maar die hier in de  
 my taal en de andere, en ook  
 adas op Java een heel andere  
 taal, invloed op het ook niet  
 afenig - gelix ik heb hier alhier  
 voor de Dey. Het is waarschijnlijk  
 en hoop ik de Mr. Kerkhoven  
 die taal inzien.

In Bantam prediken we, de  
 praeij taal is, en ophooping  
 duar toe heb ik reeds in hand.  
 Hoe evr. in taal. aanbrennen  
 tot en het laatste dag public  
 problemen bleven, met het  
 dat reeds H&S mede de, een  
 het spreken, maar, eigenlyke  
 weder juist, is my kwam en  
 bezwepelyk. Aan verassend  
 (ook v. myn (tege) en teken, een  
 bleef het reeds in dit bedroeven

fein allen, die wurd dass te wille  
 189, dass de auctor. v. P.B. hae  
 langos hae wesse auctor hae  
 wessensschick nitruigingsstij  
 ten v. d. bebrangten, bocking  
 rizer, huren, in geschickte  
 wiss. spr. v. d. van hae wessensschick  
 dat de wessensschick wass, se  
 hant anstaddig tot hollen  
 die te wil hae wessensschick  
 in belastingen in wessensschick  
 dirigs papiring van der wessensschick  
 te hante, van hae wessensschick poli  
 tick, dat die van wessensschick  
 wessensschick wessensschick. v. d.  
 dacht de wessensschick wessensschick  
 hae wessensschick wessensschick  
 wessensschick wessensschick  
 in hae de wessensschick wessensschick  
 van in B. wessensschick wessensschick  
 van de geborenen, die  
 had huren, in wessensschick  
 huren, als van wessensschick  
 had hant van hae wessensschick  
 huren, in wessensschick had wessensschick  
 te hant van de bevolking  
 in wessensschick van de wessensschick  
 de hant.

de hant van hae wessensschick  
 van in wessensschick hant  
 hant van de, die wessensschick  
 te hant wessensschick te wessensschick

wessensschick in hant van de wessensschick  
 te hant wessensschick hant  
 wessensschick (v. d.) wessensschick  
 van wessensschick, wessensschick  
 wessensschick wessensschick  
 wessensschick wessensschick  
 wessensschick v. d. hant  
 in wessensschick hant  
 hant, wessensschick  
 van hant wessensschick  
 hant wessensschick  
 wessensschick in hant  
 hant is wessensschick  
 wessensschick van hant  
 van in wessensschick hant  
 hant wessensschick, in hant  
 hant, was hant in hant  
 hant, in hant hant die hant  
 hant v.

Alle hant, van hant  
 van in wessensschick hant  
 hant wessensschick, in hant  
 hant, was hant in hant  
 hant, in hant hant die hant  
 hant v.

Alle hant wessensschick in hant  
 hant v. d. hant v. d. hant (wessensschick)  
 hant wessensschick  
 v. d. hant hant hant  
 hant van hant wessensschick  
 v. d. hant, dat hant  
 hant v.

van hant hant hant  
 hant van hant hant  
 hant de hant hant  
 hant de hant hant

van Baryguemas, manna en braci n...  
 is, kroy in een co sal kitala. (Maggjit.  
 n, Almalialah). En lus ite suar. Kaba  
 linsinls abra cadabra, manna en  
 m... v. manna en dyapa's in  
 n... islam... tyd vica te m...  
 k... is. De titel is: Thilab masala,  
 myasakatin. Teramoring elmoeta  
 yg amalialah kany saking bang  
 n... nabi abach. Masalalah sala  
 labuc al. was. Manngka ka illah  
 kin maning Sajidina Ali, manngka  
 ka illah manna m. kanydy. Saalkau  
 Bararasa (?) ing m... v. v...  
 ingeng n... Pribu Satmanu,  
 sub manlama magribi v. Rue  
 n... ngasi (Cheriban), Saman was.  
 At Baranng, Saman Kaliyanga  
 n... kany, kany n... kany kany  
 kany. Kabi Panimbahan. Hoka  
 te kany kany n... kany. Pa  
 nimbahan. Narsalah te Daja (da  
 jurk) labuc. - Belgen den alng.  
 n... kany de Sur. Almalialah direa  
 v. den Prof...

K... n... manna lisa, den kon.  
 den ng... kany, kany, kany n...  
 kon ite kany v. n... kany, kany  
 de kany kany kabala kany.

In word in das gerlanifa v...  
 n... kany kany kany. De magg.  
 b. v. kany den kany dal, de kany

alig, de Abnucialit, Hartwid etc.  
 Dine vriend bestuurt, dan  
 licht darrig over die boek  
 enge. — Tammara doe by gelyc  
 Tammara de vordere. —

Ik je nog wrek durt een  
 het vordere, van boord  
 woffy in vordere hoe  
 lalger hoe meer vordere  
 King, and vordere ik in een  
 vordere over vordere tuffe  
 etc. —

Als ik een vordere vordere  
 die in een vordere van te  
 behoefte in vordere te woffy.

Alre vordere vordere vordere  
 by and over Prof. Korne

Vriendschappelyk  
 Heed en vordere

J. H. Korne

Prof. Prof. Korne  
 van vordere de hand  
 vordere ligger op de  
 vordere vordere vordere  
 platte, dat is vordere  
 by, dan die vordere een  
 vordere vordere vordere  
 vordere. —



*gr.*



X01

*Dr Mouck Burggrave*

NED: INDIE  
VIA MARSEILLE

*Leiden*

*Nederland.*



X02



D 15



دین بھسا کور

سای سید عثمان بن عبداللہ بن عقیل سود نرکیسا این دو باوکو مکدانت دو ۲۱۳ دفرکار طریقہ نقشبندیہ «  
بوکو یغ بسارن کراغن شیخ خلیل اصل دری نکریم دغشنان تیغکل دکریم مکہ دیاساۃ درفد کورو۲ طریقہ نقشبندیہ دیا  
کارغ این بوکو دکریم مکہ « دان دچیتک دکریم مصیر تاهون ۵۵ می ۱/ ہجرہ دان یغ تاروتیکن۲ دباواث یایت اورغ طریقہ

جوکا اداث

دان بوکو یغ کچیلن کراغن شیخ خلیل القادری اصل دری نکریم بغداد تیغکل دکریم مکہ منجیدی ساۃ درفد کورو۲ طریقہ نقشبندیہ  
دان این بوکو تولیسن تاغنی « دان ادا کورغ دتقاٹ کیرا۲ دوالمبر « دان ادا سبوة دتقا این بوکو دبارسن سبلا باوا یغ  
ادا تندا بکینی x ادا کات بارغسیاف تلہ مند شرکن فریتا کورو دیالہ اورغیغ جانن بتول « دان درملان این بوکو جوکا  
دغابیسن ادا دواچف دغمن نام شیخ خلیل القادری یغ کارغ این بوکو « دان دباواچف یغ دغتابیسن ادا دواتیکن دغمن  
بھسا ملایو ساۃ نام محمد نور کدوانام محمد عارفین

ادفون کسلان این دو ۲ بوکو سام ساج سمالاین بوکو طریقہ یغ سای سودا پتاکن سبک کسلانٹ دان کسلان  
سبک کورو۲ یغ اجراورغ۲ ماسق طریقہ سموث ایت ادا دالم سای فوٹ بوکو یغ برنام الوثیقۃ الوفیۃ یغ  
سود دتیکن اولہ مفتی مکہ اتس کبیرنٹ دان دتیکن فولاد اولہ توان فندن بیرخ دان سودا دانت دفوجی اولہ توان سنوک  
هر فرنٹ دکریم بلندا دان دتاروچریتاٹ دکورن یغ داتغ دری نکریم بلندا تاهون ۱۸۸۸ «  
ادافون سبک کجھاتن اجران طریقہ مکد سودا سای سبوة دفصل کامفت دالم ایت بوکو یغ سبوة «  
ادافون لاراغن علما۲ اتس یغ مقاجر اورغ ماسق طریقہ سودا سای سبوة دفصل کتیک اداث

فندیقت ایت کورو۲ طریقہ مقصودت دغمن مقاجر سبک اورغ اکن ماسق طریقہ کرن بواۃ چاری او نتوغ  
جوکا کرن بولی ددغر فریتاٹ « ادفون اورغ۲ یغ ماسوق طریقہ فوٹ شکا ایت جانن یغ بتول  
دفرکار اجامر دان اجام فوٹ فریتا بکیتورون اداث

تتافی سلام سای فوٹ بوکو یغ برنام الوثیقۃ الوفیۃ سودا باپق جانن مکد باپق اورغ یغ سود برنتی  
دری فرکار طریقہ درفد اورغ۲ نکریم سوکا بومی دان ادا جوکا یغ برنتی سدیکت۲ دری اورغ بوکو رباتاوی «  
دان اورغ۲ یغ بلوم ماسق طریقہ جکلو دیا دانت لیہت ایت بوکو لنتس ترناهن نکریم ماسق طریقہ اداث

ترسوة 26 جونی 1888

سید عثمان عبداللہ  
عقیل بیچ

1890-09-23

Aug 23/90

01

Ward the monkey,  
 or in way your great  
 board via Holland  
 beffered was  
 being live.

Quadrant it is, then  
 still it has in me  
 the...

Missy and Grace  
 and the  
 company Mrs. S.

Turner out  
 the auto getting  
 Red yard was  
 in S. O. years &  
 board back. The  
 carefully kept by  
 the house here for  
 Lancelotti and  
 building for more

